

شعبہ نشر و اشاعت

تنظیم اسلامی پاکستان

36۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور فون: 042-35869501، ای میل: media@tanzeem.org

19- نومبر 2021ء

پریس ریلیز

وفاقی شرعی عدالت میں ربا کے خاتمہ سے متعلق درخواست میں اثارنی جنرل کالیت و لعل سے کام لینا انتہائی شرمناک ہے۔

لاہور (پ ر) وفاقی شرعی عدالت میں ربا کے خاتمہ سے متعلق درخواست میں اثارنی جنرل کالیت و لعل سے کام لینا انتہائی شرمناک ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے ایک بیان میں کہی۔ انھوں نے کہا کہ اثارنی جنرل نے سودی نظام کے خلاف درخواستوں میں ایک مرتبہ پھر عدالت کے اختیارِ سماعت کو چیلنج کیا ہے جس پر عدالت یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہے کہ آخر حکومت شریعت کے مطابق قانون سازی سے کیوں بچکچار ہی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اثارنی جنرل کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس معاملہ میں قانونی موٹو لگائیاں کرنے کی بجائے فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے حقائق پر مبنی دلائل پیش کریں اور عدالت کے استفسار پر گزشتہ 15 سال میں سود کے خاتمہ کے حوالے سے ہونے والے اقدامات کی تفصیلات پیش کریں۔ انھوں نے کہا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے 2001ء کے فیصلے میں پارلیمان کو سود سے پاک مالیاتی نظام ترتیب دینے کی ہدایت کی تھی۔ انھوں نے اثارنی جنرل کے اس اعتراض کو لغو قرار دیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو ایسا فیصلہ دینے کا اختیار نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت سمیت تمام ادارے آئین پاکستان کی پاسداری کے پابند ہیں اور آئین پاکستان ریاست سے سود کے مکمل خاتمے کی بھی بات کرتا ہے اور یہ بھی اصول طے کر چکا ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی۔ حکومت کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جب تک ہماری معیشت اسلامی خطوط پر استوار نہیں کی جاتی ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جگمگ ختم کریں گے تو ہی اللہ کی مدد و نصرت نصیب ہو سکے گی اور ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔

جاری کردہ

ایوب بیگ مرزا

مرکزی ناظم نشر و اشاعت، تنظیم اسلامی پاکستان



TANZEEM-E-ISLAMI

PRESS RELEASE: Thursday 18 November 2021

“It is disgraceful and appalling that the Attorney General is using obstructionist tactics in the petition for eradication of riba in the Federal Shariat Court.”

(Shujauddin Shaikh)

Lahore (PR): “It is disgraceful and appalling that the Attorney General is using obstructionist tactics in the petition for eradication of riba in the Federal Shariat Court.”

This was said by the Ameer of Tanzeem-e-Islami, **Shujauddin Shaikh**, in a statement. The Ameer noted that the Federal Shariat Court (FSC) is entitled to query the Attorney General of Pakistan (AGP) regarding the apparent unwillingness of the government to legislate in accordance with the Islamic Shariah, after the AGP once again objected to the legal jurisdiction of the court in the petitions filed against the riba system. The Ameer remarked that it is the duty of the AGP to present arguments based on facts before the Federal Shariat Court instead of engaging in theatrics, and submit before the court details of the measures taken during the last 15 years for the abolition of riba as instructed. The Ameer said that the Federal Shariat Court in its landmark decision of 2001 had directed the parliament to devise a financial and economic system free from riba, and lamented that the assertion made by the AGP was nothing short of ludicrous that the Federal Shariat Court did not have the mandate to give such a direction to the parliament as done in the verdict of 2001. The fact of the matter is that all institutions and entities of the state, including the government, are obligated to abide by the constitution of the Islamic Republic of Pakistan in letter and spirit, the Ameer said. The constitution of the Islamic Republic of Pakistan not only orders the total abolition of riba but also categorically enunciates the principle that no legislation shall be done repugnant to the Qur’an and Sunnah. The government ought to realize that until we model and mould our economy according to Islamic edicts, we would not be able to ward off the stranglehold of the IMF on Pakistan. The Ameer concluded by empathizing that the truth is that we ought to immediately abolish riba and stop the war with Allah (SWT) and His (SWT) Messenger (SAAW), so that we could become eligible for the mercy and succor of Allah (SWT) and be successful in this world and in the Hereafter.

Issued by
Ayub Baig Mirza
Markazi Nazim of Press and Publications Section
Tanzeem-e-Islami, Pakistan